

صرف ایک پیغام!

ناجی ابراہیم العرفج

صرف ایک پیغام!: اس کتابچہ میں اللہ کی توحید کے اس مشترکہ پیغام کو ذکر کیا گیا ہے جس کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی نبی ورسول بھیجے گئے۔ اور آج یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں میں موجود بائبل (عہدنامہ قدیم و عہد نامہ جدید) کے حوالے سے اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کتابچہ کی نشر و اشاعت کر کے اس

مشترکہ پیغام کو عام کیا جائے تاکہ لوگ
حقیقت حال سے واقف ہو کر صرف معبود
برحق کی عبادت کر کے دنیا و آخرت کی ابدی
سعادت سے ہمکنار ہو سکیں۔

<https://islamhouse.com/2794127>

• صرف ایک پیغام!

- اصل موضوع کا بیان :
- اس لئے: حقیقت و سچائی کیا ہے؟
- بائبل (عہد نامہ قدیم) میں ایک
برحق اللہ کا ذکر:
- بائبل (عہد نامہ جدید) میں ایک
برحق اللہ کا ذکر:
- حقیقت یہ ہے کہ (اللہ کی توحید) کا
پیغام ہی قرآن کریم کا بنیادی
موضوع ہے۔
- خاتمہ

- سچا معبود صرف ایک ہے ، لہذا
- تنہا اسی کی عبادت کرو۔
- حرفِ آخر
- مؤلف کے دیگر رسائل و اعمال

صرف ایک پیغام!

رسالة واحدة فقط

(بالأردنية)

تحریر: ڈاکٹر ناجی بن ابراہیم العرفج - حفظہ
اللہ۔

ترجمہ: شفیق الرحمن ضیاء اللہ مدنی

مراجعة: عطاء الرحمن ضیاء اللہ مدنی

ناشر: دفتر تعاون برائے دعوت
وارشاد، ربوہ، ریاض

ہدیہ

× ان لوگوں کے نام جو صدق و اخلاص کے ساتھ حقیقت کے متلاشی ہیں۔

× جو بیدار مغز اور روشن ضمیر والے ہیں۔

مطالعہ سے پہلے چند سوالات:

۱۔ اس ایک پیغام سے کیا مقصود ہے؟

۲۔ اس کے بارے میں بائبل کا کیا کہنا ہے؟

۳۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟

۴۔ اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

اصل موضوع کا بیان :

سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک اصلی پیغام لوگوں کی جانب بھیجا گیا۔ اس پیغام کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کرانے اور انہیں

سیدھی راہ کی طرف واپس لانے کے لیے
واحد معبود برحق نے نبیوں اور رسولوں
جیسے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ
اور محمد علیہم الصلاة والسلام کو صرف ایک
پیغام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے مبعوث
فرمایا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ:

سچا معبود صرف ایک ہے، لہذا تم اسی کی
عبادت کرو۔

برحق الہ واحد ہی (خالق) اور وہی معبود ہے
اس نے :

۱۔ نوح علیہ السلام کو اس پیغام کی تبلیغ کے
لئے بھیجا کہ اللہ ایک ہے، لہذا تم صرف اسی
کی عبادت کرو۔

۲۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس پیغام کی تبلیغ
کے لئے بھیجا کہ اللہ ایک ہے، لہذا تم صرف
اسی کی عبادت کرو۔

۳۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پیغام کی تبلیغ کے لئے بھیجا کہ اللہ ایک ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔

۴۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پیغام کی تبلیغ کے لئے بھیجا کہ اللہ ایک ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔

۵۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کی تبلیغ کے لئے بھیجا کہ اللہ ایک ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے اولوالعزم رسولوں اور ان کے علاوہ دیگر نبیوں اور رسولوں کو جن میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو نہیں، کچھ کاموں کی ادائیگی کے لئے مبعوث فرمایا، جن میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ وحی الہی کو حاصل کرنا اور اس کو اپنی قوموں اور متبعین تک پہنچانا۔

۲۔ لوگوں کو توحید اور ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرنے کی تعلیم دینا۔

۳۔ قول و عمل میں اچھا نمونہ بننا، تاکہ اللہ کی راہ پر چلنے میں لوگ ان کی اقتدا کر سکیں۔

۴۔ اپنے پیروکاروں کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے، اس کی اطاعت کرنے اور اس کے احکام کی تابع داری کرنے کی طرف رہنمائی کرنا۔

۵۔ اپنے پیروکاروں کو دین کے احکام، اور اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دینا۔

۶۔ نافرمانی کرنے والوں اور مشرکوں جیسے بتوں کے پجاریوں وغیرہ کی ہدایت کرنا۔

۷۔ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرانا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، اور بروز قیامت ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، پس جو شخص صرف اللہ پر

ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور اس کی نافرمانی کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

ان تمام نبیوں اور رسولوں کو صرف ایک معبود نے پیدا کیا اور مبعوث فرمایا ہے۔ کائنات اور اس کے اندر موجود سبھی مخلوقات اللہ خالق کے وجود پر ناطق ہیں، اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی کائنات اور اس کے اندر جتنے بشر، چوپائے اور کیڑے مکوڑے ہیں سب کا خالق ہے۔ نیز وہی موت اور حیات فانی و حیات جاودانی کا خالق ہے۔

یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کی مقدس کتابیں سبھی اللہ کے وجود اور اس کی توحید (ایک ہونے) پر شاہد ہیں۔

حق کا متلاشی اگر اخلاص اور غیر جانبداری سے بائبل اور قرآن کریم میں الہ (معبود) کے مفہوم کا مطالعہ کرے تو وہ ان یگانہ صفات کی پہچان کر سکتا ہے جو اللہ کے لئے خاص ہیں اور ان میں کوئی نام نہاد و باطل معبود اس کا شریک نہیں ہے۔ ان صفات میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ سچا معبود خالق ہے مخلوق نہیں۔

۲۔ سچا معبود ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی وہ متعدد ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔

۳۔ اللہ رب العزت مخلوق کے تصوّرات سے پاک ہے، اس دنیا میں نگاہیں اس کا ادراک و احاطہ نہیں کر سکتی ہیں۔

۴۔ اللہ ازلی ہے اسے موت نہیں لاحق ہوتی، اور نہ ہی وہ کسی چیز میں حلول

کرتا، اور نہ ہی وہ اپنے مخلوقات میں سے کسی چیز کا شکل و روپ اختیار کرتا ہے۔

۵۔ اللہ بے نیاز اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، ان کی حاجت نہیں رکھتا۔ چنانچہ نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اسے کھانا یا پانی کی حاجت ہے اور نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔

۶۔ اللہ جلال و کمال اور جمال و خوبصورتی کی صفات میں یکتا و بے نظیر ہے، ان میں اس کا کوئی بھی شریک و مشابہ نہیں ہے، لہذا اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔

ہم ان کسوٹیوں اور صفات کو (اور دیگر ان صفات کو جن سے اللہ منفرد ہے) کسی بھی نام

نہاد اور باطل معبود کی ابطال و تردید میں استعمال کر سکتے ہیں۔

اب میں اوپر ذکر کردہ ایک پیغام کے بارے میں گفتگو کی طرف لوٹتا ہوں، تاکہ بائبل اور قرآن کریم کے حوالوں سے بعض ان نصوص کو نقل کروں جو اللہ کی وحدانیت کی تاکید کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس فکر و سوچ کو بانٹنا چاہتا ہوں:

بعض عیسائی تعجب کے طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ: یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہم ایک معبود پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر معاملہ کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے بارے میں بہت ساری کتابوں کے پڑھنے اور گہرا مطالعہ کرنے نیز عیسائیوں کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت اور بحث و مباحثہ کرنے کے بعد میں نے یہ پایا ہے کہ ان کے

نزدیک ”اللہ“ (جیسا کہ ان میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے) درج ذیل چیزوں کو شامل ہے:

۱۔ اللہ باپ۔

۲۔ اللہ بیٹا۔

۳۔ اللہ روح القدس۔

عام علم اور منطق سلیم ایک انصاف پسند ریسرچر سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان عیسائیوں سے سوال کرے کہ:

۷ تمہارے قول ”اللہ ایک ہے“ کا کیا مطلب ہے جبکہ تم تین معبودوں کی طرف اشارہ کرتے ہو؟

۷ کیا اللہ ایک ہے جو تین میں حلول کیے ہوئے ہے، یا تین ہے جو ایک میں حلول کیے

ہوئے ہے۔) ایک تین میں ہے یا تین ایک میں
(؟

مزید برآں ، بعض عیسائیوں کے عقائد کے
مطابق ان تینوں معبودوں کے مختلف وظائف،
ڈھانچے اور اشکال و صورتیں ہیں جو اس
طرح ہیں:

۱۔ اللہ باپ = یہی خالق ہے۔

۲۔ اللہ بیٹا = یہی نجات دہندہ ہے۔

۳۔ اللہ روح القدس = یہ صلاح کار (محافظ و
حمایتی) ہے۔

یہ گمان رکھنا کہ مسیح اللہ کا بیٹا، یا وہ خود
اللہ، یا اللہ کا ایک حصہ ہیں، پورے طور سے
اس بات کے خلاف ہے جسے توریت اور
انجیل نے ثابت کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو
کوئی نہیں دیکھ سکتا :

”تم لوگوں نے اس کی آواز کبھی نہیں سنا اور
نہ تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے۔“ (انجیل
یوحنا ۳۷:۵)

”اسے نہ کسی نے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی
کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔“ (تیموتھیوس
۱۶:۶)

”کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا اور اگر
دیکھ بھی لے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔“
(الخروج ۲۰:۳۳)۔

میں ان نصوص اور ان کے علاوہ بائبل کے
دیگر نصوص کی بنیاد پر تعجب کرتے ہوئے
پوری سچائی اور امانت داری سے یہ سوال
کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ
علیہ السلام ہی اللہ (معبود) ہیں اور بائبل کے
ان نصوص کے درمیان جو اس بات کو ثابت
کرتی ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس
نے اللہ کو دیکھا ہو یا اس کی آواز سنی ہو، ان

دونوں متعارض باتوں کے درمیان کیسے
تطبیق دیں گے؟!!

۷ کیا اس وقت یہودیوں، عیسیٰ کے اہل خانہ
اور ان کے پیروکاروں نے عیسیٰ مسیح
(بعض عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق اللہ
بیٹا) کو نہیں دیکھا اور ان کی آواز نہیں سنی؟

۷ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توریت و انجیل تو
اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کو نہ کوئی
دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کی آواز سن سکتا
ہے، پھر ہم ایسے شخص کو پاتے ہیں جو یہ
عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عیسیٰ جس کی
شخصیت کو انہوں نے دیکھا اور اس کی
آواز سنی ہے وہی اللہ یا اللہ کا بیٹا ہے؟ کیا اللہ
کی حقیقت سے متعلق کوئی مخفی راز ہے؟

توریت تو بالکل اس کے برعکس بات کو زور
دے کر بیان کرتی ہے، چنانچہ اللہ کے متعلق
اس کا بیان ہے کہ: ”بے شک میں ہی رب

ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور میں پوشیدہ بات نہیں کرتا اور نہ ہی میرا مقصد پوشیدہ ہے۔۔۔ میں اللہ ہوں اور میں سچ بولتا ہوں، اور جو کچھ سچ ہے اس کا اعلان کرتا ہوں۔“۔ (اشعیاء ۴۵: ۱۸-۱۹)

اس لئے: حقیقت و سچائی کیا ہے؟

ازراہ کرم! بائبل کے سابقہ نص کو بار بار پڑھیں اور دیر تک اس میں غور و فکر کریں۔

آئیے، اب ہم ایک ساتھ بائبل اور قرآن کریم میں اللہ کی حقیقت کی کھوج کریں، امید ہے کہ آپ ان آیات و نصوص میں تدبر کرنے اور اس کتابچہ کو نقد و انصاف کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی آراء و نقطہ نظر سے مجھے نوازیں گے۔

موضوعیت و انصاف پسندی کا خیال کرتے ہوئے میں بغیر کسی تعلیق و تبصرہ کے دلائل

پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ مکمل توجہ اور انصاف کے ساتھ بغیر کسی سابقہ رائے اور تصوّر قائم کئے ہوئے ان میں غور و فکر کریں گے۔

بائبل (عہد نامہ قدیم) میں ایک برحق اللہ کا ذکر:

۷ اے اسرائیل سن! رب ہمارا معبود ہے، رب ایک ہے۔ (التثنیہ ۴: ۶)

۷ کیا اللہ واحد نے ہمارے لئے زندگی کی روح نہیں پیدا کیا اور ہمیں روزی دیا؟ (ملاخی ۱۵: ۲)

۷ تاکہ تم جان لو اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور یہ جان لو کہ میں ہی وہ اللہ ہوں، مجھ سے پہلے کوئی معبود نہیں تھا اور نہ ہی میرے بعد کوئی معبود ہو گا، میں خود ہی رب ہوں، میرے

علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔
(اشعیاء ۴۳: ۱۰-۱۱)

۷ میں ہی اول و آخر ہوں میرے علاوہ کوئی
معبود نہیں ہے۔ میرے جیسا کون
ہے؟ (اشعیاء ۶: ۴۴)

۷ کیا میں رب نہیں ہوں اور میرے علاوہ
کوئی معبود نہیں ہے؟ بھلائی کرنے والا اور
نجات دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔
(اشعیاء ۲۱: ۴۵)

کیا آپ کو اس جیسے دوسرے نصوص یاد
ہیں؟

بائبل (عہد نامہ جدید) میں ایک برحق اللہ کا
ذکر:

۷ ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ کو صرف اللہ
واحد حق اور یسوع مسیح کو، جسے تو نے
بھیجا ہے جانے۔ (انجیل یوحنا ۱۷: ۳)

۷ اپنے معبود اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کی خدمت کرو۔ (انجیل متی ۴: ۱۰)

۷ اے اسرائیل سن! فقط ہمارا رب ہی ایک تنہا اللہ ہے۔۔۔ کیونکہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ (انجیل مرقس ۲۸: ۱۲-۳۳)

۷ کیونکہ اللہ ایک ہے، اور اللہ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ایک ہے، اور وہ انسان یسوع مسیح ہیں۔ (تیموتھیوس کے نام پہلا خط ۵: ۲)

۷ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: میرے نیک سردار، ابدی زندگی پانے کیلئے مجھے کیا اچھا کام کرنا چاہئے؟ تو (عیسیٰ علیہ السلام) نے اس سے فرمایا: ”مجھے صالح (نیک) کہہ کر کیوں بلاتے ہو؟ صالح تو صرف ایک ہے اور وہ اللہ عزو جل ہے۔ (انجیل متی ۱۹: ۱۶-۱۷، جیسا کہ شاہ جیمس کے نسخہ میں ہے)۔“

کیا آپ دوسرے نصوص بتا سکتے ہیں جن میں اس بات کی تاکید ہو کہ اللہ صرف ایک ہے؟ (نہ کہ تین!)

قرآن کریم میں ایک برحق اللہ کا ذکر:

v ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

” آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے “ (سورہ اخلاص: ۱-۴)

v ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ۲۵]

” میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو “۔

v ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ

لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
﴿المائدہ: ۷۳﴾

”وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے، انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔“

v ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصافات: 4] ”یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔“

v ﴿أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ۶۳]

”کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔“

حقیقت یہ ہے کہ (اللہ کی توحید) کا پیغام ہی
قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہے۔

خاتمہ

بائبل اور قرآن کریم کی متذکرہ بالا نصوص اور ان کے علاوہ سینکڑوں دلیلیں، اس بات کی اس طرح تاکید کرتی ہیں کہ کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا برحق معبود نہیں، جیسا کہ بائبل کہتا ہے: ”اے اسرائیل سن! رب ہمارا معبود ہے، رب ایک ہے ... کیونکہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے“۔ (انجیل مرقس ۸: ۱۲-۳۳)

اور قرآن کریم اسی بات کو اللہ کے اس قول میں بیان کرتا ہے:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، (سورہ اخلاص ۱۱۳: ۱)

”آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے“۔

کتاب مقدس صرف اس بات کی ہی تاکید نہیں کرتا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ اللہ ہی خالق اور تنہا نجات دہندہ ہے، ”تاکہ تم جان لو کہ وہ میں ہی ہوں، اور مجھ پر ایمان رکھو، میں ہی اللہ ہوں، مجھ سے پہلے کوئی معبود نہیں تھا اور میرے بعد بھی کوئی معبود نہیں ہوگا، میں خود ہی رب ہوں، میرے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔“ (اشعیاء ۴۳: ۱۰-۱۱)

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا روح القدس یا ان کے علاوہ کسی کی الوہیت کے قول کی کوئی دلیل و سند نہیں ہے، وہ سب صرف اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ نہ تو معبود ہیں، اور نہ ہی اللہ کے تجلی و ظہور ہیں، اور نہ ہی اس کے اوتار یا ہم مثل ہیں، کیونکہ اللہ

کے مثل کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ بائبل اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ یہودیوں پر ان کے گمراہ ہوجانے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے غصہ ہوا ہے: ”ان پر رب سخت غضبناک ہوا“ (عدد ۳: ۲۵)

نیز موسیٰ علیہ السلام نے ان کے (خود ساختہ) سونے کے بچھڑے کو توڑ پھوڑ ڈالا۔

دوسری جانب، عیسائیوں میں سے توحید پرست جماعت کو عذاب اور ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑا، کیونکہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان لائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حنیفیت (اللہ کی وحدانیت) کی تعلیمات کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، اور پال (Paul) اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ظاہر ہونے والی تثلیث کی بدعت کو مسترد کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور دیگر تمام نبیوں اور رسولوں (ان سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو) کو اس لئے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے اور ہر قسم کی عبادت کو صرف اسی کے لئے خاص کرنے کی دعوت دیں جس کا کوئی ساجھی و شریک نہیں، چنانچہ ان سب کا صرف ایک پیغام یہی تھا کہ:

سچا معبود صرف ایک ہے، لہذا تنہا اسی کی عبادت کرو۔

جب نبیوں اور رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے، تو ان کا دین بھی ایک ہوا، اس لئے سوال اٹھتا ہے کہ ان نبیوں اور رسولوں کا دین کیا ہے؟

ان کے پیغام کا جوہر و خلاصہ اپنے معاملہ کو "اللہ کے سپرد کرنے" پر قائم ہے، یہی کلمہ

عربی زبان میں ”اسلام“ کے معنی و مفہوم کی تعبیر کرتا ہے۔

اور قرآن کریم نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کا سچا مذہب اسلام ہی تھا، قرآن کی اس حقیقت کو ہم بائبل میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، (اگر اللہ نے چاہا، تو بائبل میں اس حقیقت کی تلاش ہم آئندہ کتابچہ میں کریں گے)۔

آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ نجات حاصل کرنے کیلئے ہمارے اوپر اس پیغام کو قبول کرنا اور سچائی و اخلاص کے ساتھ اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا! بلکہ اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر ایمان لانا (جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے) اور ان کے طریقوں کی اتباع کرنا اور اس پر عمل

پیرا ہونا ضروری ہے، یہی ابدی سعادت
مند زندگی کا راستہ ہے۔

لہذا : اے اخلاص کے ساتھ حقیقت کے
متلاشی اور نجات کے خواہاں، تجھے اس
معاملے میں سوچنا چاہئے اور آج ہی اس میں
غور و فکر کرنا چاہئے اس سے پہلے کہ موقع
ہاتھ سے نکل جائے۔ اس موت کے چنگل میں
پھنسنے سے پہلے جس کا حملہ اچانک ہی
ہوتا ہے! کسے معلوم کہ موت کا بلاوا کب
آجائے؟

اس اہم اور فیصلہ کن امر میں فکر و تدبیر اور
نظر ثانی کے بعد، آپ بصیرت افروز عقل اور
سچے دل سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ
ایک ہے اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں
، اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، اور آپ اس
پر ایمان لے آئیں اور صرف اسی کی عبادت
کریں، اور اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ

نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک نبی و رسول ہیں۔

۷ اور اب آپ - اگر چاہیں تو - ان کلمات کی ادائیگی اپنی زبان سے کریں:

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“

یہ گواہی دائمی سعادت مند زندگی کے راستہ کا پہلا عملی قدم ہے، اور یہی جنت کے دروازے کی حقیقی کنجی ہے۔

اگر آپ نے اسلام کی راہ کو اپنانے کا من بنا لیا ہے، تو آپ اپنے مسلمان دوست یا

پڑوسی، یا قریب ترین مسجد یا اسلامی سنٹر کی مدد لے سکتے ہیں، یا آپ خود مجھ سے رابطہ قائم کریں یا خط لکھیں (اس سے میں سعادت محسوس کروں گا)۔

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) [الزمر: ۵۳-۵۵]

”(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف

جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کئے جاؤ
اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے
اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔“

نیز ایک دوسری چیز بھی ہے...

حرفِ آخر

غور و فکر اور تدبیر سے اس ایک پیغام کو
پڑھنے کے بعد سچے اور سنجیدہ لوگ سوال
کر سکتے ہیں کہ :

§ حقیقت کیا ہے؟

§ غلط کیا ہے؟

§ کیا کرنا چاہئے؟

اگر اللہ نے چاہا تو ان مسائل و غیرہ کے بارے
میں اپنے آنے والی کتاب میں بحث کروں گا۔

مؤلف کے دیگر رسائل و اعمال

اوّل: تلاشِ حق سیریز

(محاسن اسلام اور تقابل ادیان کے سلسلے میں
ایک علمی مطالعہ)

۱۔ وہ کون ہے؟

۲۔ عیسائیت میں معبود کی طبیعت کیا ہے؟

۳۔ صرف ایک پیغام!

۴۔ حقیقت کیا ہے؟

۵۔ غلط کیا ہے؟

۶۔ جمالیاتِ اسلام

۷۔ ابجدیاتِ اسلام

۸۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟

دوم: مستقبل میں لکھے جانے والے رسائل:

v ابدی سعادت و فلاح کی کنجیاں

Message to (Janet) کے نام ایک خط

کیوں ”ہم“؟

سوم: دیگر اعمال:

ہفتہ واری ٹیلیویژن پروگرام

آڈیوز اور ویڈیوز ٹیلیویژن ایپی سوڈ

اسلام سے متعلق عمومی لکچرز